



## SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

### **PRESS RELEASE**

For immediate release  
December 16, 2022

#### **Federal Government appoints Akif Saeed as new SECP Chairman**

ISLAMABAD, December 16: The federal government here on Friday issued notification, appointing Mr. Akif Saeed as Chairman of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) with immediate effect.

Mr. Saeed had earlier served as Commissioner SECP from December 2014 to December 2017. He joined SECP in 2004 and served as head of various divisions. He has extensive regulatory, operational and business knowledge of various infrastructure entities in the capital markets. During his tenure at SECP, he has contributed significantly towards instituting various legal and regulatory reforms for enhanced corporate governance, transparency, investor education, investor protection and risk management. He was instrumental in introducing legal framework for REITS and private equity, in addition to introducing private pension through implementation of voluntary pension rules and issuance of license to 4 pension fund managers in 2007.

He played a vital role in achieving compliance with the IOSCO benchmarks principles of the securities market. Mr. Saeed also led the team that worked on overhauling the securities laws in Pakistan and drafted the new Securities Act 2015 and Futures Act 2016. He has also worked in various private sector entities including the American Express Bank and as consultant for Asian Development Bank. He is a Chevening alumnus and completed his Master's in Business Administration from the University of Edinburgh and also holds master's degree in economics from Government College Lahore.

Earlier during the day, the Federal Minister for Finance & Revenue Senator Mohammad Ishaq Dar had held a meeting with the SECP Management at Finance Division. The Minister extended his felicitations to the newly appointed SECP commissioners. The Finance Minister further appreciated SECP's work as a contributor to the financial and economic development in Pakistan by taking a number of regulatory measures in restoring and maintaining the confidence of domestic as well as foreign investors.

## عاکف سعید ایس ای سی پی کے نئے چیئر مین مقرر

اسلام آباد، 16 دسمبر: وفاقی حکومت نے عاکف سعید کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا نیا چیئر مین مقرر کر دیا ہے۔ ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں ہیں۔ اس سے پہلے حکومت کی جانب سے انہیں دسمبر 13 کو کمشنر تعینات کیا گیا۔

اس سے پہلے، عاکف سعید دسمبر 2014 سے دسمبر 2017 تک ایس ای سی پی میں بطور کمشنر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے 2004 میں ایس ای سی پی میں شمولیت اختیار کی اور مختلف ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ عاکف کپیٹل مارکیٹ، فنانشل سروسز اور ریگولیٹری فریم ورک کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ایس ای سی پی میں اپنی سروس کے دوران انہوں نے ریل اسٹیٹ انوسٹمنٹ ٹرسٹ، پرائیویٹ ایکویٹی اور پرائیویٹ پنشن فنڈز کے ریگولیٹری فریم ورک تشکیل دئے۔ انہوں نے پاکستان کی تین اسٹاک ایکس چینجوں کے انضمام اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ سکیورٹیز مارکیٹ کے بین الاقوامی معیارات کو لاگو کروانے میں بھی ان کا کردار نمایاں رہا۔ عاکف سعید نے سکیورٹیز ایکٹ 2015 اور فیوچرز ایکٹ 2016 کا مسودہ تیار کرنے والی ٹیم کی بھی سربراہی کی۔ عاکف سعید نے امریکن ایکسپریس بینک سمیت پرائیویٹ سیکٹر کے مختلف اداروں میں کام کیا جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ عاکف سعید شیونگ سکالر ہیں، اور ایڈنبرا یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر ز اور گورنمنٹ کالج لاہور سے معاشیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔

اس سے قبل، وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے فنانس ڈویژن میں ایس ای سی پی کے کمشنروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے نئے تعینات ہونے والے کمشنرز کو مبارکباد دی۔ وزیر خزانہ نے ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور نجی شعبے میں معاشی ترقی کے لئے ایس ای سی پی کی حالیہ کاوشوں کو سراہا۔